

Time: 10 Minutes Paper Math 4 Total Marks: 10

6th Month, 3rd Week, 1st Day Syllabus: Unit 6: Review Exercise Q.No.1, 2

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (5)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

(i) There are \_\_\_ small parts in a protractor and each part is equal to 1 degree.

پروٹیکٹر میں \_\_\_ چھوٹے حصے ہوتے ہیں ہر حصہ 1 ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔

(a)	150	(b)	120	(c)	180	(d)	360
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(ii) An angle less than \_\_\_\_\_ is called acute angle.

\_\_\_\_\_ سے چھوٹا زاویہ حادہ زاویہ کہلاتا ہے۔

(a)	90°	(b)	80°	(c)	100°	(d)	180°
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

(iii) The length of the boundary of a circle is called \_\_\_\_\_ of the circle.

دائرے کی باؤنڈری دائرے کا \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔

(a)	Circumference	محیط	(b)	Centre	مرکز
(c)	Diameter	قطر	(d)	Radius	رداس

(iv) The area covered by a closed figure is the \_\_\_\_\_ of that figure.

کسی بند شکل نے جو علاقہ گھیرا ہوتا ہے وہ اس شکل کا \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(a)	Length	لمبائی	(b)	Side	ضلع	(c)	Perimeter	قطر	(d)	Area	رقبہ
-----	--------	--------	-----	------	-----	-----	-----------	-----	-----	------	------


(v) Line of symmetry divides a figure into \_\_\_\_\_ equal parts.

سمٹری کی لائن شکل کو \_\_\_\_\_ برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔

(a)	5	(b)	4	(c)	2	(d)	3
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Q.No.1. Encircle the parallel lines from the given lines: (5)

دی گئی لائنوں میں سے متوازی لائنوں کے گرد دائرہ لگائیں۔



Time: 10 Minutes Paper Math 4 Total Marks: 10

6th Month, 3rd Week, 1st Day Syllabus: Unit 6: Review Exercise Q.No.1, 2

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (5)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

(i) There are \_\_\_ small parts in a protractor and each part is equal to 1 degree.

پروٹیکٹر میں \_\_\_ چھوٹے حصے ہوتے ہیں ہر حصہ 1 ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔

(a)	150	(b)	120	(c)	180	(d)	360
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(ii) An angle less than \_\_\_\_\_ is called acute angle.

\_\_\_\_\_ سے چھوٹا زاویہ حادہ زاویہ کہلاتا ہے۔

(a)	90°	(b)	80°	(c)	100°	(d)	180°
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

(iii) The length of the boundary of a circle is called \_\_\_\_\_ of the circle.

دائرے کی باؤنڈری دائرے کا \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔

(a)	Circumference	محیط	(b)	Centre	مرکز
(c)	Diameter	قطر	(d)	Radius	رداس

(iv) The area covered by a closed figure is the \_\_\_\_\_ of that figure.

کسی بند شکل نے جو علاقہ گھیرا ہوتا ہے وہ اس شکل کا \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(a)	Length	لمبائی	(b)	Side	ضلع	(c)	Perimeter	قطر	(d)	Area	رقبہ
-----	--------	--------	-----	------	-----	-----	-----------	-----	-----	------	------

(v) Line of symmetry divides a figure into \_\_\_\_\_ equal parts.

سمٹری کی لائن شکل کو \_\_\_\_\_ برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔

(a)	5	(b)	4	(c)	2	(d)	3
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Q.No.1. Encircle the parallel lines from the given lines: (5)

دی گئی لائنوں میں سے متوازی لائنوں کے گرد دائرہ لگائیں۔

